

PRESS RELEASE

For immediate release

June 17, 2021

SECP rationalizes advertisement requirements for mutual funds

ISLAMABAD, June 17: In order improve quality of information related to performance of mutual funds to promote better investment decisions, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has specified certain requirements for the advertisements of equity funds.

The requirements have been issued to curb the problem of mis selling through advertisements being circulated on social media, specially concerning equity oriented mutual funds. Advertisements only projecting favourable information on fund's performance and not presenting the complete risk profile, comparisons to benchmark and important disclaimers, can lead may be misconstrued by potential investors.

The SECP, vide Circular No 16 of 2021, has specified certain conditions for advertisement of equity funds, requiring fund's projected performance/return to be based on a minimum period of twelve (12) calendar months on rolling basis. Moreover, in order to improve legibility of risk profiles and disclaimers, the text format has also been specified. These conditions form part of the SECP's policy to raise the bar on AMCs fiduciary responsibility, by encouraging true and fair view of fund's performance to attract investment.

ایس ای سی پی نے میوچل فنڈز کی تشہیر کے اشتہارات کا معیار مقرر کر دیا

اسلام آباد (جون 17): سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے میوچل فنڈز کے سرمایہ کاروں کو درست معلومات اور سرمایہ کاروں کو بہتر فیصلے کرنے میں معاونت فراہم کرنے کے پیش نظر، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی جانب سے ایکویٹی فنڈز کی کارکردگی کی تشہیر کے لئے شائع کئے جانے والے اشتہارات اور دی جانے والی معلومات کے معیارات وضع کر دیے ہیں۔

میوچل فنڈز کے اشتہارات پر دی جانے والی معلومات کا معیار مقرر کرنے کا مقصد اشتہارات میں خاص طور پر ایکویٹی فنڈز کی کارکردگی اور متوقع منافع کے بارے میں معلومات کی بڑھا چڑھا کر تشہیر کرنے کی روک تھام کرنا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ فنڈز سرمایہ کاری پر ہونے والے منافع کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں لیکن اس سرمایہ کاری سے منسلک رسک پر وفاق کو حقیقی طور پر پیش نہیں کرتے۔ اس قسم کی غیر مکمل معلومات سے سرمایہ کار فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔

ایس ای سی پی کے 2021 کے سرکلر نمبر 16 میں ایکویٹی فنڈز کی تشہیر کے لیے شرائط وضع کی گئی ہیں۔ ان شرائط کے مطابق فنڈز کے لئے لازمی ہے کہ فنڈ کی مالی کارکردگی بارے تجزیہ کی گزشتہ باری مہینوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ترتیب دیا جائے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری سے منسلک رسک کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے بھی ہدایات دی گئی ہیں۔